



**FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**COMPETITIVE EXAMINATION-2019**  
**FOR RECRUITMENT TO POSTS IN BS-17**  
**UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT**  
**BALOCHI**

Roll Number

<b>TIME ALLOWED: THREE HOURS</b> <b>PART-I(MCQS): MAXIMUM 30 MINUTES</b>	<b>PART-I (MCQS)</b> <b>PART-II</b>	<b>MAXIMUM MARKS = 20</b> <b>MAXIMUM MARKS = 80</b>
<b>NOTE: (i) Part-II is to be attempted on the separate Answer Book.</b> <b>(ii) Attempt ONLY FOUR questions from PART-II. Answer must be written in respective language except where specified in the question paper. ALL questions carry EQUAL marks.</b> <b>(iii) All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different places.</b> <b>(iv) Write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q.Paper.</b> <b>(v) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must be crossed.</b> <b>(vi) Extra attempt of any question or any part of the question will not be considered.</b>		

**PART-II**

- (20) سوال نمبر 2- جہل ودا تگئیں سر حالان چہ کیے سر اسد لبز نبشتا کے نبشتہ بکن ات۔  
(i) ماتی زبان ءوانگ ءارزشت ءبستار  
(ii) بلوچستان ءچا گردی ءمالی جاورانی سر اچائینہ پاکستان کوریڈور ءاثرات  
(iii) بلوچی گیدی لبز انک ءربیت ءبند پتر
- (20) سوال نمبر 3- بلوچی آزما تک ءدمیروی ءوسان ءاثرات شما چون گندرات۔
- (20) سوال نمبر 4- ملائی اہدء شاعری ءفارسی زبان ءاثرات شما چون گندرات۔
- (20) سوال نمبر 5- چاچ ہی انت۔ چاچ ءساڑا کنان ءچندے چاچ ہم نبشتہ بکن ات۔
- (20) سوال نمبر 6- جہل ودا تگئیں دو دمانی گالبدانی معتہا ہاں گوں گوئڈگری ءنبشتہ بکن ات۔  
آساپ، بجاری، باہوٹ، مہمانداری، بیرگری، ہڈپروشی
- (20) سوال نمبر 7- بلوچی ءکسماتک نویسی ءربیت ءبابت ءنبشتہ بکن ات۔
- (20) (10) سوال نمبر 8- الف۔ جہل ودا تگئیں بلوچی ٹیکسٹ ءانگریزی ءر جانک بکن ات۔  
بلوچی کو نہیں لبز انک وتی زبان ءبیان ءسر حال ءبگپ ءرد اسر جم ءبلوچی ر بیدگی زند ءگوں بندوک انت۔ بلوچی عہدی شعرانی اندر ء  
بلوچ رواجی زند، ر بیدگ، چاگرد، مالیات ءقدر ءقدر ارنی در شان پہ ڈول ءد ابے کنگ بو تگ، پیشکد گشت بیت کہ بلوچی کو نہیں لبز انک  
وتی در شان ءرد اسر جم ءگوں بلوچی زند ءھنگرنچ ءھمگونگ انت۔
- (10) ب۔ جہل ودا تگئیں انگریزی ٹیکسٹ ءبلوچی ءر جانک بکن ات۔

Balochi is surrounded by languages belonging to at least five language families. In the Balochi mainland, it stands in contact with other Iranian Languages and dialects, Persian (Farsi, Dari and Sistani) and Bashlardi in the west and northwest, Pashto in the north and northeast, as well as with the Indo-Aryan languages of Urdu, Panjabi, Lahnda, and Sindhi in the northeast and east. In the Gulf States, Balochi is spoken alongside Arabic (a Semitic Language), and in East Africa, it is in contact with Bantu Languages, such as Swahili. In the central parts of Balochistan, the Dravidian language Brahui has lived in symbiosis with Balochi for centuries, and in Turkmenistan, Balochi is in contact with Turkmen (a Turkic Language). In the diaspora, Balochi is meeting new languages, mainly of the Indo-European family.

\*\*\*\*\*